



19
ذُرُودِ سَلام



Fred og Velsignelser



مكتبة الدعوة
Dawat-e-Islami

19 دُرود و سلام

19 Duood Shareef

Fred og Velsignelser

Denne brochure er skrevet af Shaykh-e-tariqah Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, grundlægger af D'awat-e Islami Hadhrat 'Allama Maulana Muhammad Ilyas 'Attar Qadiri Razavi ءامت بركائهم العالیه på Urdu. Oversættelses-afdelingen (Majlis-e-Tarajim) står for oversættelsen af denne brochure. Hvis du finder fejl i oversættelsen kontakt da venligst oversættelses-afdelingen på følgende adresse:

Oversættelse Afdelingen

Majlis-e-Tarajim D'awat-e-Islami

'Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah,
Muhallah Saudagran,
Old Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan.
Telefon #: 0092-21-349213-89-90-91
E-mail: translation@dawateislami.net

Indhold

Fred og Velsignelser

Fortrinligheden Af Durood Shareef	1
Durood Til Fredag Nat	1
Tilgivelse Af Synder	2
Nådens 70 Døre	3
Gode Gerninger I 1000 Dage	3
Belønning For 600 000 Durood	3
Nærhed af Profeten ﷺ	4
Den Bedste Durood.....	5
Tilgivelse Og Benådning.....	6
Velsignelse Og Godhed I Formue	7

Fred og Velsignelser

For God Hukommelse7

Gavn i Deen og Dunya8

Durood Shafa'a (Forbøn)8

Skål fuld af Aab-e-Kauthar.....9

Belønning for 11,000 Durood9

Befrielse Fra Al Slags Fitna10

Belønning For 100,000 Durood10

Opnåelse Af Succes I Dunya Og I Aakhira11

Belønning for 14,000 Durood11

Durood At-Tunajjeena12

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

Fred og Velsignelser

Fortrinligheden Af Durood Shareef

Sayyiduna Abu Hurayra رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ beretter at Lederen af Madina صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ Udtalte, at den der reciterer durood en gang, Allah عَزَّوَجَلَّ sender 10 velsignelser over ham. (*Sahih Muslim Hadith 408, s.216*)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Durood Til Fredag Nat

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الْحَبِيبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Fred og Velsignelser

Lærde siger, at den der reciterer denne Durood natten til hver fredag dvs. natten mellem torsdag og fredag, vil se Profeten صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ved tiden af sin død. Når han bliver sænket i graven vil han endda opleve at Profeten صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ selv, med sine velsignede hænder sænker ham ned. (*Afdal-as-salwat 'ala Sayyidis Sasat s.151*)

Tilgivelse Af Synder

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

Sayyiduna Anas رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ beretter at Vores Elskede Profet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ udtalte at den, der reciterer denne durood, vil få tilgivet sine synder, hvis han står op så inden han sætter sig, hvis han sad så inden han rejser sig. (*Al-marj'a as-sabiq s.25*)

Nådens 70 Døre

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

70 døre til Nåde åbnes for den der reciterer denne durood. *(Al-qoul-ul-badir s.277)*

Gode Gerninger I 1,000 Dage

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

Sayyiduna Ibn 'Abbas رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ beretter at Vores bærende Profet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ udtalte at Englene skriver gode gerninger i 1000 dage for den der reciterer denne durood. *(Majm'a-uz-zawaid hadith 17 305 s. 254 bind 10)*

Belønning For 600,000 Durood

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً
دَائِمَةً يَدْوَاهُ مَوْلَاكَ اللَّهُ

Fred og Velsignelser

Sayyiduna Ahmed 'Sawi رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ siges at have sagt, at den der reciterer denne durood en gang vil få belønning for at have reciteret 600,000 durood. (*Afdal-us-salawat 'ala sayyidis sadat s.149*)

Nærhed af Profeten ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

En dag kom en mand til Profeten صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ og Vores Elskede Profet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ satte ham mellem sig selv og Sayyiduna Abu Bakr رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ. Sahaba عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ undrede sig over hans rang, da han var gået udtalte Profeten صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ at når han recitere Durood siger han dette (overstående Durood). (*Al-qoul-ul-badi' s.125*)

Den Bedste Durood

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

Sayyiduna 'Abd ar Rahmaan bin Abi Layla رضي الله تعالى عنه fortæller, at han mødte Sayyiduna K'aab bin 'Ujra som sagde til ham, skal jeg ikke fortælle dig om en gave jeg har hørt fra Profeten صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, og han svarede: 'Hvorfor ikke.'

Sayyiduna K'aab Bin 'Ujra رضي الله تعالى عنه fortalte derefter, at de spurgte Profeten صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: Oh Allahs Profet صلى الله تعالى عليه وآله وسلم Allah عز وجل har lært os hvordan vi skal sende fred (sige salaam), men hvordan bør vi sende velsignelser (durood) over Dem صلى الله تعالى عليه وآله وسلم og Deres

Fred og Velsignelser

Ahl-ul-Bayt. Profeten svarede hertil: 'Sig således' (overstående durood). (*Sahih al-Bukhari Hadith 3370 s. 429 bind 2*)

Ála Hadhrat Imam-e-ahl-al-sunnah 'Allama Al Hafidh Al Gaari Imam Ahmed Reda رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ siger: 'Den bedste durood er den, der er bestemt, at reciteres under den bedste handling dvs. bønnen.' (Y'ani durood-e-Ibrahimi) (*Fatawa-e-Radawiya s.183, bind 6*)

Tilgivelse Og Benådning

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَلَّمَآذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَصَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ كَلَّمَآعَقَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

En person så Imam Shafi'e رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ i sin drøm efter at han havde forladt verden, han spurgte ham, hvordan det var gået ham og han svarede at han var blevet benådet af Allah 'azza wa jalla pga. velsignelsen af ovennævnte durood. (*Afdal as-salawat 'ala Sayyidis-sadaat s. 81*)

Velsignelse Og Godhed I Formue

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

Sahib-e-rooh ul bayan fortæller at den, der recitere denne durood, vil opleve at hans formue stiger. (*Tafseer rooh ul bayaan Al-Ahzaab taht al ayaat s. 233 bind 7*)

For God Hukommelse

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْكَامِلِ
وَعَلَى آلِهِ كَمَا لَانِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَةَ كَمَالِهِ

Hvis en person dør med glemsomhed, bør han recitere denne Durood så meget som muligt mellem Maghrib og 'Isha bønner. Og han vil in sha' Allah få en god hukommelse. (*Afdal as-salawat 'ala Sayyidis-sadaat s. 191, 192*)

Gavn i Deen og Dunya

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ
إِنْعَامِ اللَّهِ وَافْضَالِهِ

Den der recitere denne Durood vil opnå gavn i både deen (islam) og dunya (verden). (*Afdal as-salawat 'ala Sayyidis-sadaat s. 151*)

Durood Shafa'a (Forbøn)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ
عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Vores Elskede og Ærede Profet صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ har udtalt, at den der recitere denne Durood, for ham er Profetens صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ forbøn Wajib (nødvendig). (*At-targheeb wa at-tarheeb Hadith 31, s. 329 bind 2*)

Skål fuld af Aab-e-Kauthar

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ
وَدُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيهِ
وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Sayyiduna Hassan Basri رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ siger, at den der
ønsker at drikke af Aab-e-Kauthar skal recitere denne.

Durood. (Ash-shifa aj-juz us thaani s. 57)

Belønning for 11,000 Durood

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلْوَةً
أَنْتَ لَهَا أَهْلٌ وَهُوَ لَهَا أَهْلٌ

Sayyiduna Hafidh Jalal-Uddin-as-Suyuti رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
siger at recitation af denne Durood en gang svarer til

Fred og Velsignelser

recitation af durood 11.000 gange. (*Afdal as-salawat 'ala Sayyidis-sadaat s. 153*)

Befrielse Fra Al Slags Fitna

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ ضَاقتْ حِيلَتِي
أَدْرِ كُنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ

Syed Ibn 'Aabedin رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ siger, at han reciterede denne Durood under en Fitna i Damaskus, han havde ikke engang reciteret den 200 gange endnu og han hørte at fitnaen (prøvelsen) var afværget. (*Afdal as-salawat 'ala Sayyidis-sadaat s. 154*)

Belønning For 100,000 Durood

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّورِ الدَّائِي
وَالسِّرِّ السَّارِي فِي سَائِرِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

Når man recitere denne Durood en gang, får man belønning for at have reciteret Durood 100.000 gange. Hvis en person i nød recitere den 500 gange, vil han blive frigjort fra sin nød. (*Afdal as-salawat 'ala Sayyidis-sadaat s. 113*)

Opnåelse Af Succes I Dunya Og I Aakhira

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا فِي
جَمِيعِ الْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا وَبَعْدَ كُلِّ حَرْفٍ أَلْفًا

Den, der recitere dette efter recitation af Quran, vil opnå succes i Dunya og i Aakhira. (*Tafseer rooh ul bayaan Al-Ahzaab taht al ayaat 56 s. 234 bind 7*)

Belønning for 14,000 Durood

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ
كَمَالِ اللَّهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ

Fred og Velsignelser

Man opnår belønning for 14.000 Durood ved at recitere denne en gang. (*Afdal as-salawat 'ala Sayyidis-sadaat s. 150*)

Durood At-Tunajjeena

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ
الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ
وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عَلَى
الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ
فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Sheikh Mujadid-ad-deen Fairoz Abadi beretter med henvisning til Sheikh Hassan bin 'Ali Aswani, at Allah 'azza wa jalla vil lette prøvelserne for den, der reciterer denne Durood 1000 gange, når han oplever modgang, problemer eller katastrofer. (*Matale-'ul- musarraat s. 471*)

For Security of the Home

Sayyidunā Imām Fakhruddīn Rāzī عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِيّ says, 'Whoever writes بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ on the entrance door (main gate) of his house gets secured from destruction, even if he is a disbeliever (only in this world). So how high would be the excellence of that Muslim who has inscribed it on his heart's tablet forever!'
(*Tafsīr Kabīr*, pp. 152, vol. 1)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

Ved Majlis-ul-Madina-tul-'ilmiy

THE BLOSSOMING OF SUNNAH

Alhamdulillah ﷺ (By the Grace of Allah ﷺ) the *Sunnah* of the Holy Prophet ﷺ is learnt and taught abundantly in the fragrant *Madani* environment of Dawat-e-Islami, a global non-political movement for the preaching of *Qur'an* and *Sunnah*. It is requested to spend whole night in the weekly *Sunnah* inspiring congregation commencing after *Salat-ul-Maghrib* every Thursday in Faizan-e-Madina, Mahalla Saudagran, Old Sabzi Mandi Karachi. Make it a routine to travel in *Madani Qafilas* (Outreach Travels) with the devotees of the Holy Prophet ﷺ to learn *Sunnah*, fill in the booklet of *Madani In'aamaat* (ritual deeds) daily doing *Fikr-e-Madina* (self-accountability) and submit it to the *Zim'madar* (relevant representative of Dawat-e-Islami) of your locality. *Inshā-Allah* ﷺ, with the blessings of this, the mindset and strong desire of protecting your faith, adopting the *Sunnah* and hating sins would be developed. Every Islamic brother should develop the *Madani* mindset "I have to strive for reforming myself and the people of the whole world *Inshā-Allah* ﷺ."

To reform ourselves, we have to act upon *Madani Inaamat* and to make an effort to reform the people of the whole world we have to travel with *Madani Qafilas* *Inshā-Allah* ﷺ.



Maktaba-tul-Madina

Faizan-e-Madina, Aalami Madani Markaz, Mahalla Saudagran, Old Sabzi Mandi, Baab-ul-Madina Karachi, Pakistan.

☎ +92-21-34921389 to 93, 4126999 Fax: +92-21-34125858

✉ maktabaglobal@dawateislami.net

Web: www.dawateislami.net